

# اچھی سکونت اختیار کرنے کیلئے شراکت دار (PARTNERS FOR GOOD HOUSING)



فلاڈیلفیا (Philadelphia) شہر  
لائسنس اور معائنے کا شعبہ (Department of Licenses and Inspections)  
کمشنر کے دفتر (Commissioner's Office) کی طرف سے قائم شدہ

## اچھی ہاوسنگ کے لیے پارٹنرز کا تعارف

فلاڈیلفیا شہر نے، اپنے شہریوں کی جانب سے، گھروں اور اپارٹمنٹس کے لیے صحت، حفاظت اور دیکھ بھال کے کم سے کم معیارات مقرر کیے ہیں۔ ان معیارات کو پورا کرنے کے سلسلے میں کرایہ داروں، مالک مکانوں اور سٹی گورنمنٹ کے درمیان شراکت داری عمل میں لائی جاتی ہے۔ فلاڈیلفیا میں رہنے والوں کو معقول رہائش فراہم کرنے کے لیے تینوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔

اس گائیڈ بک میں موجود معلومات کا اطلاق فلاڈیلفیا، پنسلوانیا پر ہوتا ہے اور یہ فلاڈیلفیا شہر کے کوڈ آف جنرل آرڈیننس (Code of General Ordinances) – خاص طور پر ٹائٹل 4، بلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ آکوپنسی کوڈ (The Building Construction and Occupancy Code) اور ٹائٹل 9، ریگولیشن آف بزنسز، ٹریڈز اینڈ پروفیشنز (Regulation of Businesses, Trades, and Professions) پر مبنی ہے۔

اضافی معلومات، بشمول اس کتابچے تک آن لائن رسائی، نیز بلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ آکوپنسی کوڈ (جس میں فلاڈیلفیا پراپرٹی مینٹیننس کوڈ شامل ہے) نیز فلاڈیلفیا فائر کوڈ تک رسائی، محکمہ کی ویب سائٹ: <http://www.phila.gov/li> دستیاب ہے

محکمہ صحت عامہ (Department of Public Health) اور ماحولیاتی صحت کی خدمات (Environmental Health Services) کا  
شکریہ آپ کی بدستور معاونت اور تعاون کے لیے

## فہرست مواد

- 2 ..... اچھی ہاوسنگ کے لیے پارٹنرز کا تعارف
- 4 ..... کرائے کے لائسنس کے عمومی تقاضے
- 8 ..... آگ سے تحفظ
- 13 ..... بنیادی سہولت کے تقاضے
- 15 ..... گھروں، اپارٹمنٹس، اور صحن کو صاف ستھرا نیز جراثیم سے پاک رکھنا
- 18 ..... عمارت کی تعمیر اور سکونت کے ضابطے کا نفاذ کیسے کیا جاتا ہے
- 19 ..... شکایت یا اپیل کیسے دائر کی جائے
- 20 ..... ضمیمہ اے (A): پینے کے پانی میں لیڈ
- 21 ..... ضمیمہ بی (B): کرایے کی ذیلی چیک لسٹ

## کرائے کے لائسنس کے عمومی تقاضے

### 1. کرائے کا لائسنس

Rental Licenses are issued by the Department of Licenses and Inspections (L&I). For more information see [Section 9-3900](#) of the Philadelphia Code online at [www.phila.gov/li](http://www.phila.gov/li).

ایک کرائے کا لائسنس اگر قبضے کے لیے دیا جائے تو درج ذیل میں سے کسی کی بھی ملکیت کے لیے ضروری ہے:

- کوئی بھی رہائشی یونٹ
- بغیر کچن کے کمرہ (Rooming unit) یا مشترکہ کچن کا گھر (rooming house)
- خواب گاہ یا سونے کا مشترکہ کمرہ (Dormitory)
- ہوٹل، موٹل، یا دیگر مہمانوں کی رہائش (محدود رہائش کے علاوہ)
- عمر رسیدہ اور معذور افراد کیلئے امدادی رہائش (Assisted living)

توقعات:

- مشترکہ ملکیت کے تحت ایک عمارت میں ایک سے زیادہ یونٹوں کے لیے کرایہ کا ایک ہی لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔
- اگر جائیداد کسی قریبی خاندانی رکن کے قبضے میں ہے تو اس وقت کرایہ کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی کرایہ نہیں لیا جاتا، بشرطیکہ نان-رینٹل کا حلف نامہ محکمہ کے پاس دائر کیا گیا ہو۔
- اس کو ورچوئل یا ذاتی ملاقات کے ذریعے L&I کے لائسنس جاری کرنے والے ڈویژن میں جمع کروائیں۔
- ان جائیدادوں کے لیے رینٹل لائسنس کی ضرورت نہیں ہے جو فلاڈیلفیا ہاؤسنگ اتھارٹی (PHA) اور اس کے ذیلی اداروں کے زیر ملکیت ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ فیڈرل پراپرٹی مینٹیننس کے معیارات کے مطابق چلائی جارہی ہیں۔
- محدود رہائش کی سرگرمی کے لیے رینٹل لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ محدود رہائش ایک رہائشی یونٹ کا عارضی کرایہ ہے جس میں رہائش، سونے یا قیام کے لیے رہا جائے (مثلاً، Airbnb)۔
- محدود رہائش کی اجازت صرف اس صورت میں دی جاتی ہے جب ایک رہائشی، پرائمری یونٹ میں رہ رہا ہو۔ اگر کسی یونٹ کا پرائمری رہائشی نہیں ہے، تو اسے ہوٹل کے طور پر اجازت اور لائسنس ملنا چاہیے۔
- محدود رہائش کی سرگرمی کی اجازت صرف اس صورت میں دی جاتی ہے جب اسکا بندوبست ایک لائسنس یافتہ محدود رہائش اور ہوٹل بکنگ ایجنٹ کے ذریعے کیا جائے جیسا کہ سیکشن 9-3910 میں بیان کیا گیا ہے۔
- محدود رہائشی سرگرمی کے لیے زوننگ کی منظوری اور لمیٹڈ لاجنگ آپریٹر کے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔

### 2. بزنس ٹیکس اکاؤنٹ نمبر

یہ فلاڈیلفیا ریونیو ڈپارٹمنٹ (Philadelphia Revenue Department) کی طرف سے تفویض کردہ نمبر ہے جسے سٹی بزنس ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

ایک فرد یا کمپنی کے لیے صرف ایک بزنس ٹیکس اکاؤنٹ نمبر درکار ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنی رینٹل پراپرٹیز کے مالک ہوں۔

مطلوبہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے، جائیداد کے مالکان و مکان مالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ٹیکس جمع کرواتا ہو۔

### 3. کمرشل ایکٹیویٹی لائسنس (CAL)

پہلے اسے کاروباری استحقاق (Business Privilege) لائسنس کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ لائسنس ہر اس شخص یا کمپنی کے لیے درکار ہے جو فلاڈیلفیا شہر میں کوئی بھی کاروبار کرنے کے خواہشمند ہیں بشمول وہ لوگ جو اپنی جائیدادوں کو قبضے کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ یہ لائسنس تاحیات مفت ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کاروباروں پر ہوتا ہے جو کسی فرد یا کمپنی کی ملکیت ہوں۔ کرایہ کے لائسنس کے لیے درخواست دینے سے پہلے CAL حاصل کرنا ضروری ہے۔

ایک فرد یا کمپنی کے لیے صرف ایک CAL درکار ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنی ریٹنل پراپرٹیز کے مالک ہوں۔

استثناء:

- چار یا اس سے کم ریٹنل یونٹوں والی پراپرٹی کے لیے، جہاں مالک خود رہ رہا ہو، کمرشل ایکٹیویٹی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے شہر ایک، ایک شناخت کنندہ، کو استعمال کرتا ہے جسے ایکٹیویٹی لائسنس نمبر کہا جاتا ہے۔

### 4. زوننگ (حلقہ بندی) کی منظوری

کرائے کی رہائش گاہ کے طور پر کام کرنے کے لیے پراپرٹی کی حلقہ بندی صحیح طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ زوننگ (حلقہ بندی) کی منظوری درکار ہے بیشک مالک یونٹ میں سے کسی ایک پر قابض ہو۔

رہائشی استعمال یا مہمانوں کی رہائش کے استعمال کے لئے پراپرٹی کی حلقہ بندی ہونا ضروری ہے۔ رہائشی کیٹیگری میں گھریلو اور گروپ رہائش شامل ہیں۔

- گھریلو رہائش میں یہ چیزیں شامل ہیں:

- سنگل فیملی - 1 فیملی کے لیے رہائشی جگہ

- دو فیملیاں - 2 فیملیوں کے لیے رہائش گاہ جس میں ہر فیملی ایک رہائشی یونٹ پر قابض ہو

- ملٹی فیملی - 3 یا اس سے زیادہ فیملیوں کے لیے رہائش گاہ جس میں ہر خاندان ایک رہائشی یونٹ پر قابض ہو

- گروپ رہائش میں یہ چیزیں شامل ہیں:

- پرسنل کیئر ہوم

- سنگل روم والی رہائش - ایک عمارت جو ایک پرائیویٹ باتھ روم کے بغیر متعدد کمروں پر مشتمل ہو۔

○ مثلاً: سونے کے لئے مشترکہ کمرے (Dormitories)، مشترکہ کچن والا گھر (rooming houses)، اور آزادانہ رہائش (supported independent living)

- مہمانوں کی رہائش - ہوٹل، موٹل، وغیرہ۔

### 5. سکونت کا سرٹیفکیٹ (CO) یا قانونی سکونت کا ثبوت

CO ایک سرٹیفیکیشن ہے جو کسی عمارت کی تعمیر یا جگہ کی تبدیلی کے بعد L&I کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ ریٹنل لائسنس حاصل کرنے کے لیے لازمی شرط کے طور پر CO کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئی قائم شدہ یا نئی تعمیر شدہ عمارت کے کرائے کے لائسنس کے لیے لازمی شرط کے طور پر CO کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے سے موجود، قانونی طور پر مقررہ استعمال کے لیے، متبادل دستاویزات جمع کرائی جا سکتی ہیں جیسا محکمے نے معین کیا ہو۔

## 6. مالک مکان کی لیڈ پیٹ کی ذمہ داریاں

اگر کوئی عمارت مارچ 1978 سے پہلے تعمیر کی گئی تھی اور کرائے کا لائسنس حاصل کر رہی ہے، تو یہ لیڈ سے حفاظت سے متعلقہ قوانین کے تابع ہے۔

استثناء:

- ایسے رہائشی یونٹ جو کسی تعلیمی ادارے نے بنائے ہوں یا تعلیم کے لئے بنائے گئے ہوں خصوصی طور پر اس ادارے کے طلباء کی رہائشی ضروریات کے لئے

اگر عمارت لیڈ قوانین کے تابع ہے، تو مالک مکان کو لیز پر دستخط کرنے سے پہلے، کرایہ دار کو حالیہ سرٹیفکیٹ فراہم کرنا چاہیے جس سے یہ ظاہر ہو کہ پراپرٹی لیڈ سے محفوظ یا لیڈ فری ہے۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ پراپرٹی لیڈ سے محفوظ یا لیڈ فری ہے، ریاستی لائسنس یافتہ لیڈ انسپکٹر یا EPA سے تصدیق شدہ ڈسٹ وائپ ٹیکنیشن کو یونٹ کا معائنہ کرنا چاہیے اور لیڈ کی جانچ کے لیے ڈکٹ وائپ کے نمونے جمع کرنے چاہئیں۔ اس فیصلے پر کہ پراپرٹی لیڈ سے محفوظ یا لیڈ فری ہے، ایک سرٹیفکیٹ فراہم کیا جائے گا۔ صرف پنسلوانیا کا لائسنس یافتہ انسپکٹر، خطرے کی تشخیص کرنیوالا (Risk Assessor) یا EPA کا سرٹیفائیڈ لیڈ ڈسٹ سیمپلنگ ٹیکنیشن ہی سرٹیفیکیشن فراہم کر سکتا ہے۔

ڈسٹ وائپ ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی، فلاڈیلفیا ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کو ان کے آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کرائی جانی ضروری ہے۔

- لیڈ سے حفاظت کی سرٹیفیکیشن، معائنہ ہو جانے کی بنیاد پر ہونی چاہیے جس کو رینٹل لائسنس کی تجدید یا نئے لیز معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے 4 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو۔

- لیڈ سے حفاظت کی سرٹیفیکیشن، معائنہ ہو جانے کی بنیاد پر ہونی چاہیے جو رینٹل لائسنس کی تجدید یا نئے لیز معاہدے پر عمل درآمد کرائے جانے سے پہلے کسی بھی وقت انجام دی گئی ہو۔

ایک نئے لائسنس یا کرایہ کے لائسنس کی تجدید کی درخواست اس وقت تک جمع نہیں کرائی جا سکتی جب تک کہ مطلوبہ لیڈ سرٹیفیکیشن فلاڈیلفیا ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے آن لائن پورٹل پر اپ لوڈ نہ کر دیئے گئے ہوں۔ مزید معلومات، قانونی کاپیاں، مالک مکان کے لیے رہنمائی، نمونے کے سرٹیفیکیشن، اور مزید کے لئے، اس لنک پر جائیں: [www.phila.gov/health/leadlaw](http://www.phila.gov/health/leadlaw)

## 7. کھٹمل پر قابو

مالک مکان کو کھٹمل کے انفیکشن کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے کھٹمل پر قابو پانے کا منصوبہ تیار کرنا نیز اس پر عملدرآمد کرنا چاہیے اور کرایہ دار کو فلاڈیلفیا بیڈ بگ انفارمیشنل نوٹس فراہم کرنا چاہیے۔ <https://www.phila.gov/documents/philadelphia-bed-bug-materials>

## 8. کرایہ دار تک رسائی کا ضابطہ

کرایہ داروں کی رسائی کا ایکٹ درخواست دہندہ کے کرائے اور کریڈٹ بسٹری کے لئے یکساں اسکریننگ کا معیار قائم کرتے ہوئے، رہائش تک منصفانہ رسائی کو سپورٹ کرتا ہے۔ مکان مالکان جب ممکنہ کرایہ داروں کی اسکریننگ کریں تو قانون کی پیروی کریں گے۔ <https://www.phila.gov/documents/renters-access-act-tenant-screening-guidelines>

## 9. بے دخلی سے تحفظ

مکان مالکان کیلئے لازم ہے کہ وہ بے دخلی کے لئے کوئی قدم اٹھانے سے کم از کم 30 دن پہلے رہائشی کرایہ داروں کو کرایہ داروں کے حقوق کا نوٹس بھیجے۔ یہ نوٹس لیز ختم کرنے یا تجدید نہ کرنے کا نوٹس نہیں ہے۔

<https://www.phila.gov/documents/emergency-housing-protection-act-materials-for-tenants-and-landlords>

اگر کوئی کرایہ دار مالی مشکلات کی COVID-19 سرٹیفیکیشن جمع کراتا ہے تو جب تک کہ کرایہ دار سے فوری طور پر نقصان کا خطرہ نہ ہو، مالک مکان کو بے دخلی سے انحراف کے پروگرام (Eviction Diversion Program) سے رابطہ کرنا چاہیے۔

<https://eviction-diversion.phila.gov>

## 10. دیگر تقاضے

ہر بار جب نئے کرایہ دار کورہائشی یونٹ کرائے پر دیا جاتا ہے تو، لازم ہے مکان مالک، کرایہ دار کو یہ مہیا کرے:

- i. کرائے کی مناسبت کا سرٹیفیکیٹ جو کرایہ داری شروع ہونے سے ساٹھ (60) دن پہلے L&I کی طرف سے جاری کیا گیا ہو۔
  - کرائے کی مناسبت کے سرٹیفیکیٹ میں، رہائشی یونٹ کی مناسبت کے لیے مالک کی تصدیق شامل ہونی چاہیے۔ (جب تک کہ مالک جائیداد کو کرایہ پر لینے کے لیے تمام درکار لائسنس حاصل نہ کر لے L&I کوئی سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کرے گا۔)
  - ii. اس کتابچے کی ایک کاپی، اچھی سکونت کیلئے شراکت دار۔
  - iii. کوئی بھی مالک مکان جسے ریئل لائسنس حاصل کرنا ہو، اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے مینجنگ ایجنٹ کو نامزد کرے جو شہر میں رہتا ہو یا شہر کے اندر کسی کاروباری دفتر میں باقاعدگی سے حاضری دیتا ہو۔
    - ایک مالک جو شہر کے اندر رہتا ہو یا کاروباری دفتر چلا رہا ہو وہ مینجنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
  - iv. وہ اونچی رہائشی عمارتیں جن کی کوئی منزل 75 فٹ یا اس سے زیادہ ہے کہ جو فائر ڈپارٹمنٹ کی گاڑی کی رسائی کی انتہائی سطح سے اوپر ہوتی ہیں، ان کے لئے کرایہ کے علاوہ ہائی رائز لائسنس (High-Rise License) حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔

### مفید مشورہ:

ایک چیک لسٹ کے لیے اس دستاویز کے ضمیمہ بی (B) سے رجوع کریں جسے مالک اور کرایہ دار کے ذریعے مکمل کیا جا سکتا ہے۔

## آگ سے تحفظ

### 1. عمومی تقاضے

- فلاڈیلفیا شہر میں، L&I ٹائٹل 4 کے قابل اطلاق سیکشنز کے نفاذ، بلڈنگ کنسٹرکشن اینڈ آکوپنسی کوڈ، اور ٹائٹل 9، ریگولیشن آف بزنسز، ٹریڈز اور پروفیشنز کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔
- کرایہ دار، مالک مکان، اور گھر کے مالکان میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ دالان، سیڑھیوں، آگ سے بچنے اور باہر نکلنے کے راستوں کو ہر وقت خالی رکھیں۔ سیڑھیوں کے نیچے کسی بھی قسم کا ذخیرہ کرنا ممنوع ہے جب تک کہ فلاڈیلفیا فائر کوڈ کے باب 11 کے مطابق فائر ریزسٹنس ریٹیڈ کنسٹرکشن کے ذریعے جگہ کو سیڑھی سے الگ نہ کر دیا جائے۔
- عمارت کے اندر کسی بھی جگہ بشمول تہ خانے، اسٹوریج، الیکٹریکل، مکینیکل یا دیگر آلات کے کمروں میں کوڑا کرکٹ جمع نہیں ہونا چاہیے۔ کوڑے کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنائے گئے کمروں میں پانی چھڑکاؤ کرنے کے آلات ہونے چاہئیں نیز وہ باقی عمارت سے علیحدہ ہونے چاہئیں اور اس جگہ کی بلڈنگ میں تقریباً ایک گھنٹے تک آگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔
- سیڑھیوں، گزرگاہوں، گلیوں، دروازوں، کھڑکیوں، آگ سے بچنے یا باہر نکلنے کے دیگر راستوں میں کوڑا کرکٹ یا دیگر مواد کو ذخیرہ رکھنے یا جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
- پینٹ اور آتش گیر مواد کی اجازت شدہ مقدار (بشمول آتش گیر مادوں پر مشتمل کیڑے مار دوا) کو عمارت کے دیگر تمام حصوں سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور اس جگہ کی عمارت میں تقریباً ایک گھنٹے تک آگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔
- آگ بجھانے والے آلات کو فلاڈیلفیا فائر کوڈ کے سیکشن 906 کے مطابق نصب کیا جانا چاہیے۔ سیکشن 906 اور NFPA 10 میں بیان کردہ رقبے اور فاصلے کے تقاضوں کے متبادل کے طور پر، ضابطہ ہر رہائشی یونٹ میں آگ بجھانے والے کم از کم ایک آلے کو نصب کرنے کی اجازت دیتا ہے جسے A:10-B:C-1 کے کم از کم معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمام آگ بجھانے والے آلات کے ساتھ ایک ٹیگ منسلک ہونا چاہئے جو پچھلے 12 مہینوں کے دوران کئے گئے معائنوں اور انجام دی گئی مرمت و دیکھ بھال کی نشاندہی کرتا ہو۔
- ایک اور دو فیملیوں پر مشتمل رہائش گاہ کے علاوہ، مشترکہ رہداریوں، سیڑھیوں، اور باہر نکلنے کے (بیرونی) راستے میں روشنی درکار ہے جو فرش پر ون فٹ۔ کینڈل (one foot-candle) کے معیار کی روشنی ضرور فراہم کرے۔ یہ روشنی کسی بھی رہائشی یونٹ کے سرکٹ پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ جن عمارتوں میں ایک سے زیادہ مطلوبہ اخراج کے راستے ہوں، وہاں اس لائٹنگ میں ایمرجنسی پاور کا ہونا ضروری ہے۔
- جن عمارتوں میں باہر نکلنے کے (بشمول آگ سے فرار) کے ایک سے زیادہ راستوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہر منزل سے نکلنے کے ذرائع کی نشاندہی کے لیے خارجی نشانات (exit signs) درکار ہیں۔ ان سائنز کو، عمومی پاور و ہنگامی پاور ہر دو ذرائع سے ہمہ وقت روشن ہونا ضروری ہے۔
- موجودہ عمارتوں کہ جن میں مطلوبہ اخراج کے لئے ایک سے زیادہ سیڑھیاں ہیں، ان کو آگ سے مزاحم تعمیر کے ذریعے رہداریوں سے منسلک اور الگ کیا جانا چاہیے۔ نان-ہائی رائز عمارتوں میں، ان اخراجی راستوں یا سیڑھیوں کی جگہوں پر موجود دروازے ایک گھنٹے تک آگ برداشت کرنے والے خود کار طور پر بند ہونے والے دروازے ہوں یا 1 3/4 انچ موٹے ٹھوس کور کے لکڑی کے خود کار طور پر بند ہونے والے دروازے ہونے چاہئیں۔
- جن عمارتوں میں صرف ایک مطلوبہ اخراجی راستہ ہے، وہاں اپارٹمنٹس کے دروازے خود بخود بند ہونے چاہئیں اور ایک گھنٹے تک آگ برداشت کرنے والے ہوں یا 1 3/4 انچ ٹھوس کور کا حامل لکڑی کا دروازہ ہونا چاہیے۔



## 2. ایک اور دو فیملیوں کی رہائش گاہ کے لیے تقاضے

ایک اور دو فیملی والی رہائش گاہوں کے مالکان کو (بشمول مالک کے زیر قبضہ ایک فیملی کے مکانات میں) عمارت کے بنیادی برقی نظام سے چلنے والے دھوئیں کے الارم نصب کرنے چاہئیں جو نان ریمو ایبل (سیل شدہ) 10 سالہ بیٹری سے پاور حاصل کر رہے ہوں۔ دھوئیں کے الارم کو ذیل طریقے سے نصب کیا جانا چاہئے:

- جہاں انفرادی رہائشی یونٹ یا سلیپنگ یونٹ کے اندر ایک سے زیادہ دھوئیں کے الارم نصب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں دھوئیں کے الارم اس طرح آپس میں جڑے ہونے چاہئیں کہ ایک الارم کے فعال ہونے سے انفرادی یونٹ میں موجود تمام الارم فعال ہوجائیں۔ جس جگہ پر فہرس کردہ وائریس الارم نصب ہوں کہ جہاں ایک الارم کے فعال ہونے پر تمام الارم بجتے ہوں وہاں دھوئیں کے الارم کے آپس میں جڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

- جنوری 1988 سے پہلے تعمیر کی گئی عمارتوں میں، رہائشی یونٹ کے اندر دھوئیں کے متعدد الارم کا آپس میں جڑا ہونا ضروری نہیں۔

- دھوئیں کے الارم لازماً نصب کیے جائیں:

- بیڈ رومز کے انتہائی قریبی علاقے میں

- گھر کی ہر منزل (بشمول تہ خانے) میں

- جنوری 1988 سے پہلے بنائے گئے نئے رہائشی یونٹوں میں بیڈروم کے اندر۔

○ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دھوئیں کے الارم کو بیڈروم کے قریب تر لگانا چاہئے اس انداز میں کہ وہ کچن میں کھانا پکانے کی وجہ سے یا باتھ روم میں پیدا ہونے والی بھاپ کی وجہ سے چالو نہ ہوجائیں۔

○ ڈیٹیکٹر کو کسی بھی صورت میں سونے کے کمرے کے دروازے سے پندرہ (15) فٹ سے زیادہ دور نہیں لگانا چاہئے

- لازم ہے کہ آئیونائزیشن دھوئیں کے الارمز کھانا پکانے کے مستقل طور پر نصب آلات سے بیس (20) فٹ سے کم افقی فاصلے پر نصب نہ ہوں؛ لازم ہے کہ سائینسنگ سوئچ والے آئیونائزیشن دھوئیں کے الارمز کھانا پکانے کے مستقل طور پر نصب آلات سے دس (10) فٹ سے کم افقی فاصلے پر نصب نہ ہوں؛ فوٹو الیکٹرک دھوئیں کے الارمز کھانا پکانے کے مستقل طور پر نصب آلات سے چھ (6) فٹ سے کم افقی فاصلے پر نصب نہ ہوں؛

- دھوئیں کے الارم کسی باتھ ٹب یا شاور پر مشتمل باتھ روم کے دروازے یا کھلنے کی جگہ سے تین (3) فٹ سے کم افقی فاصلے پر نصب نہ ہوں۔

- ملحقہ سطحوں کے درمیان دروازوں کے بغیر تقسیم شدہ مکانات میں، صرف اوپری سطح پر دھوئیں کے الارم کی ضرورت ہوتی ہے، بشرطیکہ سطحوں کے درمیان ایک مکمل منزل سے کم فاصلہ ہو۔

- ایک اور دو فیملی والی رہائش گاہوں (R3) کے طور پر زیر قبضہ پہلے سے موجود پریپرٹیز نیز وہ پریپرٹیز کہ جو رہائشی نگہداشت کی سہولیات (R4) کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جن میں پانچ (5) سے پندرہ (15) مکین ہوتے ہیں، ان پریپرٹیز کا کاربن مونو آکسائیڈ (CO) کا پتہ لگانے والے آلات سے لیس ہونا ضروری ہے۔

- CO کا پتہ لگانے والے آلات، اپنی پرائمری پاور عمارت کی وائرنگ سے حاصل کریں گے۔

○ اگر عمارت 1 جنوری 2010 سے پہلے تعمیر کی گئی ہو تو بیٹری سے چلنے والے یا الیکٹرک پلگ ان ٹائپ کے CO ڈیٹیکٹرز کی اجازت ہے۔

- CO کا پتہ لگانے والے آلات کو بیڈ رومز کے قریب سونے کے برعلیحدہ کمرے کے باہر نصب کیا جائے گا۔

- جہاں ایندھن جلانے والے آلات سونے کے کمرے کے اندر یا اس سے منسلک باتھ روم میں موجود ہوں، وہاں سونے کے کمرے کے اندر ایک کاربن مونو آکسائیڈ الارم نصب کیا جانا چاہیے۔

- کمبائنیشن سموک/CO الارم لگانے کی اجازت ہے۔

## آپ کی معلومات کے لیے:

نیشنل فائر پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق، امریکہ میں کاربن مونو آکسائیڈ کے تقریباً 72,000 واقعات رونما ہوئے ہیں ہر سال

- ایک اور دو فیملی والی رہائش گاہوں میں دھوئیں کے الارم کے سالانہ سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، جائیداد کی فروخت پر، بیچنے والے کو خریدار کو تحریری طور پر تصدیق کرنا ہوتی ہے کہ دھوئیں اور CO کے مطلوبہ ڈیٹیکٹرز نصب کیے گئے ہیں اور وہ مناسب آپریٹنگ حالت میں ہیں۔

### 3. رہائشی ہوٹلوں، ایک سے زیادہ فیملی والی رہائش گاہوں، اور مخلوط استعمال والی رہائشی جگہوں (غیر رہائشی جگہوں پر واقع رہائش) کیلئے تقاضے

دھوئیں کے الارمز

- عمارتوں کے رہائشی یونٹوں کے اندر دھوئیں کے الارم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہر طرف چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا ہے، اسی انداز میں جیسا کہ ایک اور دو فیملی والی رہائش گاہوں کیلئے بیان کیا گیا ہے، ماسوائے اس کے کہ کسی بھی مطلوبہ دھوئیں کے الارم کے لیے بیٹری سے چلنے والے یونٹ قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ ان کو عمارت کے خودکار فائر الارم سسٹم سے منسلک نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کا مقصد رہائش کے یونٹ میں کہ جہاں وہ لگائے گئے ہیں صرف اپنے خود ساختہ الارم کو بجانا ہے۔
- موجودہ اونچی عمارتوں میں جن میں ہر طرف چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا ہے، بیڈ رومز کے آس پاس کی جگہوں کے علاوہ، ہر بیڈ روم میں دھوئیں کے الارم کی ضرورت ہوتی ہے۔

فائر الارم کے نظام

- مندرجہ ذیل رہائشوں میں دستی اور خودکار فائر الارم سسٹم کی ضرورت ہے:
  - پہلے سے زیر استعمال گروپ R1 (ہوٹل، موٹل، وغیرہ) ماسوائے جہاں فلاڈیلفیا فائر کوڈ کے سیکشن 907.1.8 میں بیان کیا گیا ہے
  - پہلے سے زیر استعمال گروپ R2 (عمارتیں جن میں 3 یا زیادہ اپارٹمنٹس، مشترکہ اختیار/ملکیت والے (condominiums)، بغیر کچن کے کمرے (rooming units)، اجتماعی طور پر سونے کے کمرے (dormitories) وغیرہ) ہوں ماسوائے اس کے کہ جہاں عمارت کو آگ بجھانے کے خود کار نظام (an automatic fire suppression system)، پانی کے چھڑکاؤ یا فائر کوڈ سیکشن 907.1.9 میں بیان کردہ شرائط پر پورا اترنے کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہو۔
  - مخلوط استعمال کی موجودہ رہائشیں (مثال کے طور پر، گروسری اسٹور کے اوپر ایک اپارٹمنٹ) ماسوائے اس کے کہ جہاں عمارت کو خود کار طور پر آگ بجھانے والے سسٹم (پانی کے چھڑکاؤ) کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہو
  - پہلے سے زیر استعمال گروپ R4 (16 مکینوں کے لئے معاونت یافتہ رہائش)
- ایک خودکار فائر الارم سسٹم، فائر الارم پینل اور سسٹم اسموک ڈیٹیکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے جو دھوئیں کے الارم سے مختلف ہوتے ہیں، اور قابل سماعت آلات جیسے کہ گھنٹی، یا گھنٹی کے ساتھ فلیشنگ لائٹ (horn strobe) کے مجموعے پر مشتمل ہوتے ہیں اور مکینوں کو اطلاع دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب تک کہ فضا میں موجود معمول کی مصنوعات شعلہ یا آگ پیدا نہ کر دیں کہ جو دھوئیں کے ڈیٹیکٹرز کو ایکٹیویٹ کریں گی۔
- ایک دستی فائر الارم سسٹم مینول ایکٹیویشن کے ساتھ فائر الارم پینل پر مشتمل ہوتا ہے، یہ عام طور پر کھینچنے والے ہینڈل (a pull) یا شیشہ توڑ کر چالو کرنے والے (break-glass station) اور ساؤنڈنگ ڈیوائسز پر مشتمل ہوتا ہے جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔
- آگ سے بچاؤ کے تمام آلات بشمول فائر الارم سسٹمز کا، ہر سال ایک کولیفائیڈ لائسنس یافتہ الیکٹرکل کنٹریکٹر یا لائسنس یافتہ فائر الارم انسپیکٹر سے معائنہ کرایا جانا، جانچ کرانا، اور تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ سرٹیفیکیشن کی کاپیاں تین سال کی مدت کے لیے سائٹ پر رکھنا ضروری ہیں۔

- آلات سے سگنل وصول کرنے، آواز پیدا کرنے والے آلات کو چالو کرنے، اور بجلی کی پرائمری پاور نہ ہونے کی صورت میں بیک اپ پاور فراہم کرنے کے لیے ایک فائر الارم پینل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مناسب مسلسل آپریشن کو یقینی بنانے کیلئے سسٹم کے تمام حصوں کی نگرانی کی جا سکے۔ اونچی عمارتوں میں نصب ہونے والے فائر الارم سسٹمز یا یکم (1) جنوری 2004 کے بعد لگائے جانے والے سسٹمز، کو بھی فلاڈیلفیا بلڈنگ کوڈ کے مطابق مانیٹر کرنا ضروری ہے۔
- گھر کے فائر وارننگ ڈیٹیکٹرز جو رہائشی یونٹوں میں نصب ہیں کے علاوہ کسی بھی فائر الارم کے فعال ہونے کے بارے میں ڈپارٹمنٹ کو فوری طور پر "911" کے ذریعے مطلع کیا جانا چاہیے۔

#### 4. ایک سے زیادہ اخراجی سیڑھیوں والی عمارتوں کیلئے فائر الارم کے منفرد تقاضے

- کم از کم ایک زون فی منزل کیلئے فائر الارم پینل ہونا ضروری ہے۔
- کوریڈور سے عمارت کی اخراجی سیڑھوں تک ہر منزل کے ہر دروازے پر، ایک دستی فائر الارم (شیشہ توڑ کر یا ہینڈل کھینچ کر چالو کیے جانے والے) باکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر باکس پر، ایک نشان آویزاں ہونا چاہیے، جس پر لکھا ہو گا کہ "آگ لگنے کی صورت میں: الارم بجائیں اور 911 پر کال کریں۔"

#### 5. "چھوٹے" اپارٹمنٹ کی عمارتوں کے لیے فائر الارم کے منفرد تقاضے

- تین یا اس سے کم منزلہ عمارتیں کہ جن میں ایک یا دو ایسی اخراجی سیڑھیاں ہوں جو سیڑھیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 20 فٹ لمبی ڈیورٹی یا راہداری کے اندر تمام پوائنٹس سے نظر آتی ہوں وہاں الارم کے تقاضے نسبتاً کم ہیں۔
- فائر الارم پینل کو کم از کم ایک زون پر مشتمل ہونا چاہیے جو عمارت میں موجود تمام آلات کو باہم متحد کر کے رکھتا ہے۔
- ایک دستی فائر الارم باکس (شیشہ توڑ کر یا ہینڈل کھینچ کر چالو کیے جانے والا باکس) صرف سیڑھی سے اخراج کے دروازے پر درکار ہے، ہر منزل پر نہیں۔ باکس پر، ایک نشان چسپاں ہونا چاہیے، جس پر لکھا ہو کہ "آگ لگنے کی صورت میں: الارم بجائیں اور 911 پر کال کریں۔"

#### 6. مخلوط جانے سکونت کے لیے فائر الارم کے تقاضے

- "مخلوط جانے سکونت" کی تعریف کریں - یہ آرٹ کی ایک اصطلاح ہے جسے لوگ شاید نہیں سمجھتے ہیں۔
- جب تک کہ ہر جگہ پر پانی کے چھڑکاؤ کا بندوبست نہ ہو غیر رہائشی استعمال کیلئے، الیکٹریک پاور سے چلنے والا ایک خودکار فائر الارم سسٹم کہ جس میں دھوئیں کا پتہ لگانے کی صلاحیت بھی موجود ہو، درکار ہے۔
- جہاں غیر رہائشی استعمال شراب پینے اور/یا کھانے پینے کی جگہ ہو، وہاں باورچی خانے میں، گاہکوں کے علاقے میں جہاں سگریٹ نوشی کی اجازت ہو، اور جہاں بھنے ہوئے یا تلے ہوئے طعام گاہکوں کی تواضع کیلئے پیش کیے جاتے ہیں، وہاں سموک ڈیٹیکٹر کے بدلے ہیٹ ڈیٹیکٹر لگانے کی اجازت ہے۔ غیر رہائشی استعمال میں موجود دیگر تمام ڈیٹیکٹرز کا سموک ڈیٹیکٹر ہونا ضروری ہے۔
- غیر رہائشی استعمال والی جگہوں پر خاص طور سے اوپر موجود ایک سے زیادہ فیملیوں کی رہائش گاہوں میں سیڑھیوں یا دالانوں میں الارم بجانے والے آلات کو لگا ہونا چاہیے۔ جہاں اوپر کا استعمال ایک یا دو فیملیوں کے غیر رہائشی استعمال میں ہو نیز جہاں تمام منزلوں کے لئے کوئی مشترکہ دالان یا سیڑھی نہ ہو، وہاں رہائشی یونٹوں میں آواز والے الارم کے آلات کی ضرورت ہوگی۔ الارم بجانے والے آلات کو سوائے رہائشی یونٹوں میں نصب دھوئیں کے الارم کے، دستی فائر الارم بکس، فائر سپریشن سسٹم بشمول کمرشل کچن سپریشن، نیز پراپرٹی کے اندر موجود دھوئیں کے تمام ڈیٹیکٹرز کے ذریعے چالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

- غیر رہائشی استعمال سے اخراج کے مقام پر دستی فائر الارم بکس موجود ہونے چاہئیں۔ ان بکسوں کو پوری عمارت میں آواز پیدا کرنے والے آلات سے منسلک ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایک یا دو فیملی کی رہائش گاہ ہے تو رہائشی استعمال سے اخراج کے راستوں پر دستی فائر الارم بکس کی ضرورت نہیں ہے۔

### آپ کی معلومات کے لیے:

امریکہ کی فائر ایڈمنسٹریشن کے مطابق، رہائشی گھروں میں آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ کھانا پکانا ہے

## بنیادی سہولت کے تقاضے

### پلمبنگ کی ضروری سہولیات

- ہر رہائشی یونٹ میں درج ذیل کا ہونا ضروری ہے:
- کمرے میں واٹر کلوڈٹ (بیت الخلاء) جو رازداری فراہم کرتا ہے۔
- ہاتھ منہ دھونے کا ایک بیسن (سنک) اسی بیت الخلاء میں ہو یا واٹر کلوڈٹ کے دروازے کے قریب ہو۔
- کمرے میں ہاتھ ٹب یا شاور جو رازداری فراہم کرتا ہو۔ یہ کمرہ بیت الخلاء والا کمرہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک الگ کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔
- ہر ہاتھ روم میں کھلنے والی کھڑکی یا ہوا کی آمد و رفت کا منظور شدہ نظام موجود ہو۔
- رومنگ (مشترکہ کرایہ داری) والے گھروں میں ہر چار کمروں کے یونٹ کے لیے ایک بیت الخلاء، ہاتھ منہ دھونے کا بیسن (سنک) اور نہانے کا ٹب یا شاور درکار ہے۔
- تمام بیت الخلاء، ہاتھ رومز، اور آلات کو بہترین چالو حالت میں رکھا جائے۔
- کرایہ دار ہاتھ روم اور ہاتھ روم کے سازوسامان کو لازماً صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک رکھیں۔

### باورچی خانے کی درکار سہولتیں

- باورچی خانے کا سنک
- کرایہ دار سنک کو صاف رکھنے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
- رہائشی یونٹوں کو کھانا پکانے کی مستقل سہولیات لازماً فراہم کی جائیں۔ کھانا پکانے کا سازوسامان لازماً مناسب طریقے سے نصب ہو، محفوظ اور مؤثر طریقے سے کام کرتا ہو اور بہترین چالو حالت میں برقرار رکھا جائے۔ کرایہ دار کھانا پکانے کا سامان صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اسے صاف ستھرا رکھیں۔
- کھانا پکانے کی مستقل سہولیات کھانا پکانے کے لیے ضروری فکسچر ہیں جو عام طور پر ایسے باورچی خانے پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں چولہے والا اوون موجود ہو۔ کھانا پکانے کی مستقل سہولیات میں مائیکرو ویو اوون، ٹوسٹر اوون یا ہاٹ پلیٹس شامل نہیں ہیں۔
- کسی بھی مشترکہ کرایہ داری (Rooming Unit) یا سونے کے لئے مشترکہ کمرے (Dormitory Unit) میں کھانا پکانے اور کھانا پکانے کا سامان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے (کافی کے برتن اور مائیکرو ویو اوون کو کھانا پکانے کے سامان میں شمار نہیں کیا جاتا)۔

### آپ کی معلومات کے لیے:

کھانا پکانے کا ایسا پورٹیبیل سامان جس میں شعلے کا استعمال ہو، ممنوع ہے۔ کھانا پکانے کا وہ سامان جس میں پٹرول یا مٹی کا تیل بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ ممنوع ہے

### پانی کے نظام

- مالک مکان گرم پانی کیلئے نظام (پائپ اور فکسچرز) اور سہولیات لازماً فراہم کرے۔ گرم پانی 110 ڈگری سے کم اور 125 ڈگری سے زیادہ نہ ہو اور مناسب حجم اور دباؤ پر دستیاب ہونا چاہئے تاکہ فکسچر کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے قابل بنایا جاسکے۔
- گیس سے چلنے والا واٹر ہیٹر کسی بھی ہاتھ روم، ٹوائلٹ روم، بیڈروم یا دوسرے زیر قبضہ کمرے میں نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ پراپرٹی مینٹیننس کوڈ کی طرف سے اجازت نہ ہو [سیکشن 505.4](#)

- جب تک کہ شہری حکام نجی نظام کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، پلمبنگ کا تمام تر سازو سامان شہری نکاسی آب کے نظام سے منسلک ہونا ضروری ہے۔

### ہیٹنگ (گرمائش یا حرارتی) سہولیات

- مالک مکان ہر رہائشی یونٹ کے لیے مرکزی حرارتی نظام یا علیحدہ سے منظور شدہ مستقل حرارتی نظام فراہم کرے۔ حرارتی سامان محفوظ، مناسب طریقے سے نصب شدہ، اور پوری رہائش گاہ کو گرم کرنے کے لیے موزوں ہو۔
- گرم کرنے کے لیے کھانا پکانے کا سامان یا آلات استعمال نہیں کیے جا سکتے۔
- دو یا دو سے زیادہ رہائشی یونٹوں والے مکانات اور عمارتوں میں، مالک مکان کو ہر اپارٹمنٹ کے لیے، یکم اکتوبر سے 30 اپریل تک اور مئی یا ستمبر کے مہینوں کے دوران، جب باہر کا درجہ حرارت 60 ڈگری فارن ہائیٹ سے نیچے گر جاتا ہے تو ہر اپارٹمنٹ کے لیے 68 ڈگری درجہ حرارت پر گرمی کی فراہمی ضروری ہے۔
- اگر رہائشی یونٹ کو علیحدہ مستقل حرارتی سامان فراہم کیا جائے جو مکمل طور پر اس اپارٹمنٹ کے کرایہ دار کے کنٹرول میں ہو تو مکان مالک کو حرارت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- منظور شدہ پورٹیل کیروسین ہیٹر کی اجازت صرف ایک اور دو فیملی والی رہائش گاہوں میں ہے بشرطیکہ وہ فائر کوڈ کی تعمیل کرتے ہوں۔ انہیں آتش گیر مواد کے 3 فٹ کے اندر نہیں ہونا چاہئے، ایندھن کے تمام کنٹینرز باہر رکھے ہوئے ہوں، انہیں کبھی بھی بغیر توجہ کے نہیں چھوڑنا چاہئے، سونے سے پہلے بند کر دینا چاہئے، اور ایندھن کی دوبارہ بھرائی صرف باہر ہی کرنی چاہئے۔

### برقی نظام

- رہائشی یونٹوں میں کم از کم تھری وائر 240/120 ولٹ سنگل فیز سروس فراہم کی جانی چاہیے جو 60 ایمپیئر سے کم نہ ہو۔
- ہر سکونت پذیر جگہ پر کم از کم دو الگ الگ نیز ریموٹ برقی آؤٹ لیٹس ہونے چاہئیں۔ غسل خانہ، بیت الخلا، ہال، اسٹوریج، یوٹیلیٹی اور اسی طرح کی جگہیں قابل سکونت جگہوں میں شمار نہیں کی جاتی ہیں۔
- لائنری ایریا میں ایک گراؤنڈ ریسیپیٹیکل یا گراؤنڈ فالٹ سرکٹ انٹرپریٹر ہونا چاہیے اور باتھ روم میں کم از کم ایک ریسیپیٹیکل ہونا چاہیے۔ نئے باتھ رومز کیلئے گراؤنڈ فالٹ سرکٹ انٹرپریٹر پروٹیکشن کے ساتھ ایک ریسیپیٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ہر باتھ روم، ٹوائلٹ روم، کچن، لائنری روم، فرنس روم، اندرونی سیڑھیاں، اور پبلک ہال میں کم از کم ایک لائنٹ فکسچر لازمی ہو۔
- تین یا اس سے زیادہ اپارٹمنٹس والی عمارتوں کے ہر پبلک ہال اور سیڑھیوں کو ہر وقت الیکٹرک فکسچر سے روشن کیا جائے۔
- ملٹی فیملی (تین یا اس سے زیادہ) والی رہائش گاہوں کے لیے ہر گلی کے داخلی دروازے اور ہر طرف یا عقبی صحن میں خودکار بیرونی روشنی کی ضرورت ہے۔
- دو یا زیادہ اخراج (Exit) والی عمارتوں کے دالانوں اور سیڑھیوں میں ہنگامی روشنی کی ضرورت ہے۔

## گھروں، اپارٹمنٹس، اور صحن کو صاف ستھرا نیز جراثیم سے پاک رکھنا

### گھر کو صحت مند اور محفوظ رکھنا

مکان مالکان اور کرایہ دار دونوں گھر میں ماحولیاتی خطرات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار لازماً ادا کریں۔ فلاڈیلفیا ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ، امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی طرف سے، کسی گھر کو صحت مند رکھنے کے لیے سات نکات پر عمل درآمد کرنے کی سفارش کرتا ہے:

1. **اسے خشک رکھیں۔** چھتوں کے نظام میں لیکج کا پانی اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکیں، ناقص نکاسی آب کی وجہ سے بارش کے پانی کو گھر میں داخل ہونے سے روکیں، اور کسی بھی طرح کی لیکج کیلئے اپنے اندرونی پلمبنگ کو چیک کریں۔
2. **اسے صاف رکھیں۔** دھول اور آلودگی کے منبع کو کنٹرول کریں، ہموار اور صاف کرنے کے قابل سطحیں بنائیں، بے ترتیبی کو کم کریں، اورگیلے (پونچھا/ٹکی) ذریعے صفائی کا مؤثر طریقہ اپنائیں۔
3. **اسے محفوظ رکھیں۔** زہروں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور ان پر ٹھیک طرح سے لیبل لگائیں۔ قالینوں کو پھسلنے سے محفوظ کریں اور بچوں کے کھیلنے کے مقامات کو سخت یا نوک دار سطحوں سے پاک رکھیں۔ دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے ڈیٹیکٹر نصب کریں اور آگ بجھانے والے آلات کو ہاتھ کی پہنچ میں رکھیں۔
4. **اسے اچھی طرح ہوادار رکھیں۔** گھر میں آلودگی کے ارتکاز کو کم کرنے کے لیے ہاتھ رومز اور کچن کو ہوادار بنائیں اور تازہ ہوا کی فراہمی کے لیے پورے گھر کی وینٹیلائشن کا استعمال کریں۔
5. **اسے کیڑوں سے پاک رکھیں۔** تمام کیڑے خوراک، پانی اور پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں۔ پورے گھر میں دراڑیں اور سوراخوں کو بند رکھیں؛ کھانا کیڑوں سے بچنے والے کنٹینرز میں ذخیرہ کریں۔ اگر ضرورت ہو تو، بند کنٹینرز میں چپکنے والے ٹریبس (-sticky traps) اور شکار کیلئے چارے (baits) کا استعمال کریں، اس کے ساتھ کم از کم زہریلے کیڑے مار ادویات جیسے بورک ایسڈ پاؤڈر کا استعمال کریں۔
6. **اسے آلودگی سے پاک رکھیں۔** 1978 سے پہلے کے گھروں میں خراب پینٹ کو ٹھیک کر کے سیسے (lead) سے متعلق خطرات کو کم کریں اور گیلی صفائی (پونچھا) کا طریقہ استعمال کر کے فرشوں اور کھڑکیوں کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ریڈون گیس کے لیے اپنے گھر کی جانچ کریں، یہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والی خطرناک گیس ہے جو مٹی، کراٹ اسپیس اور بنیادوں میں دراڑ کے ذریعے گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ اگر EPA ایکشن لیول سے اوپر درجے کی ریڈون گیس موجودگی کا سراغ ملے تو ریڈون ہٹانے کا نظام انسٹال کریں۔
7. **اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں۔** معمولی طور پر اپنے گھر کا معائنہ، صفائی اور مرمت کریں۔ چھوٹی موٹی مرمت اور مسائل کی دیکھ بھال کریں اس سے پہلے کہ وہ بڑی مرمت اور مسائل بن جائیں۔

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم یہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں [www.hud.gov/healthyhomes](http://www.hud.gov/healthyhomes)۔

### کوڑا کرکٹ اور کچرا

- ہر احاطے کا اندرونی اور بیرونی حصہ کوڑا کرکٹ یا کوڑے کے ڈھیر سے پاک ہونا چاہیے۔
- مکینوں کو تمام کوڑا کرکٹ اور کچرہ ذخیرہ کرنے والے کنٹینرز یا ٹھکانے لگانے کے آلات میں رکھنا چاہیے۔
- ہر مالک مکان مندرجہ ذیل میں سے ایک فراہم کرے گا:
  - ہر رہائشی یونٹ میں ایک منظور شدہ مکینیکل فوڈ ویسٹ گرائنڈر،
  - مکینوں کے لیے دستیاب اسٹرکچر میں، ایک منظور شدہ جلانے والا یونٹ (incinerator)، یا
  - ایک منظور شدہ لیک پروف، ڈھکا ہوا، بیرونی کوڑے دان۔
- وہ کوڑا کرکٹ، جو دبایا یا جلایا نہیں گیا، اسے لیک پروف، ٹائٹ ڈھکن والے کنٹینرز میں رکھا جائے۔ آتش گیر کچرے کو ڈھکے ہوئے کنٹینرز یا مضبوط تھیلوں میں رکھنا چاہیے جو محفوظ طریقے سے بندھے ہوئے ہوں۔ اخبارات اور رسائل کو 20 گیلن سے زیادہ گنجائش والے بندھلوں میں باندھنا چاہیے۔

- تمام کنٹینرز کو صاف ستھرا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق رکھا جانا چاہیے۔
- ریفریجریٹرز اور اسی طرح کی ایپلائنسز اور آلات کو نکال پھینکے یا احاطے میں ذخیرہ کرنے سے پہلے ان کے دروازے اتارنا ضروری ہے۔

### ری سائیکلنگ

- فلاڈیلفیا میں ری سائیکلنگ ایک قانون ہے۔ اگر آپ ری سائیکل نہیں کرتے ہیں تو آپ پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ رہائشیوں کو اپنا ری سائیکلنگ کنٹینر حاصل کرنے کی ضرورت ہے - جس کا سائز 20 گیلن سے بڑا نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ کنٹینرز کا استعمال ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ صرف ری سائیکلنگ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوں۔ شہر کے رہائشیوں کے لئے ایک مفت ری سائیکلنگ کنٹینر 'ڈپارٹمنٹ آف اسٹریٹس' سینٹیٹیشن سینٹرز میں سے کسی سے بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔
- سٹی چھ یا اس سے کم رہائشی یونٹ والی رہائشی عمارتوں کی سڑک یا فٹ پاتھ کے قریبی کناروں (curbside) سے ری سائیکلنگ وصول کرے گی۔
- چھ سے زیادہ رہائشی یونٹ والی عمارتوں کے مالکان اپنے ذاتی ذرائع سے ری سائیکلنگ کی خدمات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ عام طور پر، اس کا مطلب ری سائیکلنگ کی خدمات فراہم کرنے والے کے ساتھ نجی معاہدے طے کرنا ہوتا ہے۔ مشترکہ ملکیت (condo) اور باہمی تعاون (co-op) والی عمارتوں کے مالکان اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کے پروگرام کے ساتھ رجسٹر ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
- مالک مکان کرایہ داروں کو سٹی کے کوڑے دان اور ری سائیکلنگ کے ضوابط سے مطلع کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

### صحن اور پاڑ کی دیکھ بھال اور مرمت

- مالک مکان اور گھر کے مالک کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے صحن میں نکاسی مناسب طریقے سے ہو۔
- کرایہ دار کو صحن کو صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک رکھنا چاہیے۔
- مالک مکان یا گھر کے مالک کو پاڑ کی بہترین دیکھ بھال و مرمت برقرار رکھنی چاہئے۔
- 10 انچ سے زیادہ آگی ہوئی جڑی بوٹیوں یا پودوں کی نشوونما سے پراپرٹی کو پاک صاف رکھا جائے گا۔

### کیڑے اور چوبے

- کرایہ یا لیز پر مکان دینے سے پہلے مالکان اسٹریکچر کے اندر کسی قسم کے نقص یا خرابی کے ذمہ دار ہیں۔
- ایک فیملی والی رہائش گاہ کے مکین کیلئے گھر کو صاف ستھرا اور حفظان صحت کے مطابق یعنی جراثیم سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ کیڑوں، چوبوں، اور/یا دیگر کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنا مکین کی ذمہ داری ہے۔
- ایک ایسا اسٹریکچر جس میں دو یا دو سے زیادہ رہائش گاہیں یا رومنگ یونٹ ہوں، اسکا مالک عوامی یا مشترکہ علاقوں کو تھوڑے پھوڑے سے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر ٹڈی دل کا حملہ کسی مکین کے ٹڈی دل کو روکنے میں ناکامی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر رہائشی اور مالک مکان دونوں ہی نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔
- کھٹمل کیلئے ذمہ داری:

- مالک کی ذمہ داریاں

- مالک رہائشی یونٹ لیز پر نہیں دے سکتے جب تک کہ ذیل امور انجام نہ دے دیں:
- کرایہ دار کو کھٹملوں کے بارے میں ایک معلوماتی نوٹس کی فراہمی۔
- کھٹملوں کا منصوبہ تیار کرنا، اسے بحال کرنا نیز اس پر عمل درآمد شروع کرنا؛ اور
- کرایہ دار کو یونٹ میں کھٹملوں کی بلغار سے متعلق ہسٹری کا نوٹس نیز گذشتہ 120 دنوں میں ان کے تدارک کی ہسٹری کی نوٹس کی فراہمی
- اگر ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے، تو اسے کرایہ دار کو یہ بھی تحریری طور پر لکھ کر دینا چاہیے



- کرایہ دار کی ذمہ داریاں:
  - کسی رہائش گاہ میں داخل ہونے پر، کوئی بھی ذاتی سامان جو کہ کھٹملوں وغیرہ سے متاثر ہو اندر نہیں لا سکتے۔
  - اگر کرایہ دار کو معقول طور پر شبہ ہو، یا کرایہ دار کی رہائش گاہ یا عمارت کے مشترکہ علاقے میں کھٹملوں کے انفیکشن کے بارے میں جانتا ہو، تو 5 کاروباری دنوں کے اندر مالک مکان کو مطلع کرنا چاہیے۔
- مالک اور کرایہ دار کے درمیان مشترکہ ذمہ داریاں:
  - اگر کرایہ دار لیز شروع ہونے کے 365 دن کے اندر مالک مکان کو، تحریری طور پر یہ اطلاع دینے میں ناکام رہتا ہے کہ کرایہ دار کو معقول حد تک کھٹمل کے ہونے کا شبہ لاحق ہے، تو ایسی صورت میں کرایہ دار کھٹمل کی یلغار کی تفتیش اور اسکے تدارک کے لیے آنے والی لاگت کو شیئر کرنے کا ذمہ دار ہو گا۔
- مزید معلومات کے لیے فلاڈیلفیا کوڈ کا [سیکشن 9-4802](tel:9-4802) ملاحظہ کریں۔

## عمارت کی تعمیر اور سکونت کے ضابطے کا نفاذ کیسے کیا جاتا ہے

### مرمت

- مالک مکان یا گھر کا مالک ان تمام مرمتوں کا ذمہ دار ہے جو عمارت کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔
- تمام بنیادیں، دیواریں، چھتیں، فرش، کھڑکیاں، دروازے، سیڑھیاں، اور پورچ صحیح و سالم، موسم (آندھی یا بارش) کے اعتبار تحفظ یافتہ، اور چوبوں سے محفوظ ہونے چاہیں۔
- تمام داخلی دروازے، الماریاں، شیلف، اور دیگر فراہم کردہ سامان کو بہترین حالت اور اچھی طرح مرمت شدہ رکھنا چاہیے۔
- بیرونی لکڑی یا دھات کی سطحوں کو پینٹ یا حفاظتی کوٹنگ سے ڈھانپنا چاہیے تاکہ خراب ہونے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بیرونی دیواروں کو نوکدار ہونا چاہیے، اور دراڑیں بند کر دی جائیں تاکہ انہیں موسمی اعتبار سے تحفظ شدہ اور واٹر پروف رکھا جا سکے۔
- تمام پلمبنگ اور حرارت پیدا کرنے والے آلات کو مناسب طریقے سے نصب کیا جانا چاہیے، اچھی مکینیکل حالت میں رکھا جانا چاہیے، اور لیکج اور رکاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔

### آپ کی معلومات کے لیے:

کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان کسی بھی معاہدے یا لیز سے قطع نظر، قانون تمام تر مرمتوں کا ذمہ دار مالک مکان کو ٹھہراتا ہے۔

### لیڈ پینٹ

- جب محکمہ صحت عامہ یہ فیصلہ کرے کہ لیڈ کی موجودگی صحت کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہے تو لیڈ پینٹ کو کسی بھی رہائش، مشرکہ کچن والے گھر (rooming house)، رہائشی یونٹ، یا بغیر کچن کے کمرہ (rooming unit) کی اندرونی سطحوں پر برقرار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
- انوائرمینٹل پروٹیکشن ایجنسی کا تزنین و آرائش، مرمت اور پینٹنگ کا اصول 23، (the RRP Rule) جون 2008 سے نافذ العمل ہے تاکہ سیسے کی دھول سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ RRP کا اطلاق اس پراپرٹی میں تزنین و آرائش، مرمت یا پینٹنگ کے کام پر ہوتا ہے جو:

- 1978 سے پہلے تعمیر کی گئی تھی؛
- جہاں چھ سال سے کم عمر کے بچے وزٹ کریں یا سکونت اختیار کریں؛ اور
- جس کی دیواروں پر چھ فٹ سے زیادہ کی پینٹ کردہ سطحیں یا لکڑی کا اندرونی کام (Interior) یا 20 مربع فٹ کا بیرونی کام (exterior) متاثر ہو۔

- انسانی جسم میں لیڈ کی کوئی محفوظ سطح نہیں ہے۔ چھ سال سے کم عمر کے بچے سیسے کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ حتیٰ خون میں لیڈ کی کم سطح موجود ہونے پر بھی، سیسے کے پائے جانے کے نتیجے میں رویے اور سیکھنے کے مسائل، آئی۔ کیو میں کمی اور ہائپر ایکٹیویٹی، سست نشوونما، سماعت کے مسائل نیز انیمیا (خون کی کمی) ہو سکتی ہے۔

اگر مالک مکان کرایہ کی جائیدادوں پر RRP کے اصول کے تحت اپنا کام خود کرتا ہے اور/یا اپنے ملازمین کو ایسا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو مالک مکان کو EPA سے تصدیق شدہ RRP فرم ہونا چاہیے اور ایسا کام کرنے کے لیے صرف تربیت یافتہ اور تصدیق شدہ کارکنوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مالک مکان کسی ٹھیکیدار کو کام کرنے کے لیے رکھتا ہے، تو مالک مکان کو تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کام کرنے والے ٹھیکیدار کو اسکی ضرورت ہے۔

مزید معلومات کے لیے، براہ کرم EPA کی ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیں: <https://www.epa.gov/lead/lead-renovation-repair-and-painting-program>

## شکایت یا اپیل کیسے دائر کی جائے

### جنرل (عمومی)

سٹی رہائش کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے L&I انسپیکٹرز بھیج کر عمارتی تعمیر اور کرایہ داری کے ضابطے کا نفاذ کرتا ہے۔ L&I کو مناسب اوقات میں اس طرح کے معائنے کرنے کے لیے قانوناً اختیار اور ہدایات دی گئی ہیں۔ انسپیکٹرز کو اپنی مناسب شناخت دکھانی چاہیے۔

جب کوئی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، تو L&I ذمہ دار فریق کو مطلع کرتا ہے۔ چاہے وہ مالک مکان ہو، کرایہ دار، یا گھر کا مالک۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت کے اندر خلاف ورزی کو درست کرے۔ ذمہ دار فریق کو بورڈ آف لائسنسز اینڈ انسپیکشن ریویو میں انتظامی اپیل دائر کر کے خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے۔

اگر خلاف ورزی کو درست نہیں کیا گیا تو ذمہ دار فریق کو مقدمہ کے تحت، یا محکمہ کی طرف سے براہ راست جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مقدمے کے نتیجے میں عدالتی حکم کے تحت مالی جرمانہ ہو سکتا ہے جو فلاڈیلفیا کے ضابطہ کے تحت تجویز کیا جاتا ہے۔

انتہائی صورتوں میں جیسے کہ خطرناک اسٹریکچر والی عمارتیں، ایسی جائیدادیں جو خالی ہیں اور تجاوزات کے لیے کھلی ہیں، یا وہ کہ جن میں خطرناک مواد کا ذخیرہ ہے، تو اگر خلاف ورزیوں کو درست نہیں کیا جاتا تو L&I کسی بھی خلاف ورزی کو درست کرنے کا مجاز ہے جو غیر محفوظ یا خطرناک سمجھی جاتی ہیں۔ سٹی جائیداد کو بند کرنے کی کارروائی کا حکم بھی جاری کر سکتی ہے، جس سے جائیداد پر مزید سکونت جاری رکھنے کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ سٹی درستگی پر آنے والی لاگت کو، وائیلنٹ سے وصول کرتی ہے اور محکمہ قانون کی منظوری سے جائیداد کی ملی باز کفالت (liens) کے ذریعے لاگت کی رقم وصول کر سکتی ہے۔

### شکایات

اگر مالک مکان اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا ہے تو کرایہ دار کو مالک مکان کو بتانا چاہیے کہ کیا مسائل درپیش ہیں۔ اگر مالک مکان کارروائی کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو کرایہ دار کو 311 پر کال کے ذریعے L&I کو مسائل کی اطلاع دینی چاہیے۔ (فلاڈیلفیا کے اندر) شکایات 311 پر بذریعہ فون کال یا (فلاڈیلفیا سے باہر) 215-686-8686 پر، جبکہ ذاتی طور پر (سٹی ہال، کمرہ 167) میں، یا [آن لائن](#)، یا Philly 311 ایپ کے ذریعے درج کرائی جا سکتی ہیں۔

شکایت درج کراتے وقت، شخص کو اپنا نام اور/یا پتہ، پراپرٹی کا پتہ، اور شکایت کی نوعیت بتانی چاہیے تاکہ معائنہ کی درستگی اور کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک کیس تیار کیا جائے گا اور معائنے کیلئے موزوں یونٹ کو بھیجا جائے گا۔

اگر کوئی انسپیکٹر جائیداد میں داخل ہونے سے قاصر ہے، تو وہ اپنا کارڈ وہاں چھوڑ دے گا۔ وصول کنندہ کیلئے ضروری ہے کہ معائنے کا بندوبست کرنے کے لیے کارڈ پر موجود نمبر پر کال کرے۔

محکمہ شکایت کنندہ کی شناخت فاش نہیں کرتا ہے۔

### اپیلیں

کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ محکمہ نے کی گئی کسی کارروائی میں غلطی کی ہے وہ موزوں اپیل بورڈ سے اپیل کر سکتا ہے۔ اپیل بورڈز اور فائل کرنے کی ہدایات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، [L&I کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

## ضمیمہ اے (A): پینے کے پانی میں لیڈ

مندرجہ ذیل معلومات فلاڈیلفیا کے پانی کے محکمے اور محکمہ صحت عامہ کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں:

پرانے پلمبنگ فکسچر اور سولڈر، اور سروس پائپ میں کہ جو رہائشی پراپرٹی کو عوامی پانی کے مین پائپ سے جوڑتا ہے اس میں سیسہ موجود ہو جو پینے کے پانی میں داخل ہو سکتا ہے۔ شہر گھریلو پلمبنگ میں استعمال ہونے والے لیڈ میٹریل سے متاثر ہونے کے خطرے کم کرنے کیلئے اپنے پینے کے پانی کو ٹھیک (Treat) کرتا ہے۔ مین لائن سے آنے والے تازے پانی کا استعمال آپکی پلمبنگ سے لیڈ کے شامل ہونے کے خطرے کو مزید کم کر دے گا۔ اگر پانی کے نل کو استعمال کیے ہوئے چھ گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، تو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ پینے یا پکانے کیلئے پانی استعمال کرنے سے پہلے کم از کم تین منٹ تک پانی کو بہنے دیں۔ بہائے جانے والے پانی کی مدت کا انحصار اس بات پر بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کا نل، پانی کی مین لائن سے کتنی دوری پر ہے۔ اس کے علاوہ، آپ کو پینے، کھانا پکانے، یا بچے کا فارمولا بنانے کے لیے ہمیشہ ٹھنڈا پانی ہی استعمال کرنا چاہیے۔

مزید معلومات کے لیے، <https://www.phila.gov/guides/lead-guide/where-is-lead> پر لیڈ گائیڈ کا جائزہ لیں۔

## ضمیمہ بی (B): کرایے کی ذیلی چیک لسٹ

نیچے دی گئی چیک لسٹ کا مقصد ان اضافی دستاویزات یا معلومات کا خاکہ پیش کرنے کے لیے رہنمائی کرنا ہے جس کا کرایہ دار حقدار ہے۔

پراپرٹی کا پتہ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

یونٹ (اگر قابل اطلاق ہو): \_\_\_\_\_

اضافی تفصیلات	فراہم کردہ
اس اچھی سکونت کیلئے شراکت دار کے بروشر کی ایک کاپی	<input type="checkbox"/>
کرایہ داری کے آغاز سے ساٹھ (60) دن پہلے L&I کی طرف سے جاری کردہ کرائے کی مناسبت کا سرٹیفکیٹ	سرٹیفکیٹ کی تاریخ: _____ <input type="checkbox"/>
کرائے کا لائسنس	لائسنس نمبر: _____ <input type="checkbox"/>
مینجنگ ایجنٹ جو فلاڈیلفیا میں کام کرتا ہے۔	نام: _____ فون/ای میل: _____ <input type="checkbox"/>
کھٹمل سے تحفظ کے لیے ایک گائیڈ بروشر کی ایک کاپی	<input type="checkbox"/>
اس بات کی تصدیق کہ پچھلے 120 دنوں کے اندر اس یونٹ میں کھٹمل کی بلغار ہوئی ہے/ نہیں ہوئی ہے	_____ _____ <input type="checkbox"/>
اس بات کی تصدیق کہ یہ پراپرٹی لیڈ فری / لیڈ سے محفوظ ہونے کیلئے تصدیق شدہ ہے	سرٹیفکیٹ کی تاریخ: _____ <input type="checkbox"/>





فلاڈیلفیا (Philadelphia) شہر  
لائسنسوں اور معائنوں کا محکمہ (L&I)  
JFK Boulevard, 11th Floor 1401  
Philadelphia, PA 19102  
215.686.2400

[Phila.gov/LI](https://Phila.gov/LI)